

Askari Better Life Mehfooz Kal Plan

Introducing Our Universal Life Plan

We've crafted our Universal Life plan to help you build a secure financial future for yourself and your loved ones. For just PKR 24,000 per year, you can get started on a path that's both flexible and reliable. We all know that life can be unpredictable, and our plan is designed to provide emergency savings for your family in case something happens to you. This ensures coverage of essential expenses such as household needs, outstanding debts, and children's education costs.

Protection and Savings Combined

Our plan offers a healthy insurance cover that will help your loved ones maintain their standard of living, even if you're no longer around. But that's not all - it also comes with a savings component that lets you build a financial cushion over time. This way, you can work towards your long-term goals, whether that's sending your kids to a good school, retiring comfortably, or simply having a financial backup plan.

A Smart Investment for Your Future

By investing in our Universal Life plan, you're taking care of two important things at once: protecting your family's financial future and building a savings account that can help you achieve your goals. With a PKR 24,000 annual premium, you can start building a secure financial future for yourself and your loved ones. Our plan is designed to be flexible, reliable, and a source of peace of mind, making it a great choice for anyone looking to take control of their financial well-being.

Key Features

All in one Package!

As we go through each stage in life, our financial responsibilities change. Our perspective on life and savings changes with time. Recognizing your evolving financial needs, Mehfooz Kal Plan not only provides long-term protection from unforeseen circumstances but also brings prosperity into your life. Whether you are at the beginning of your career, have just started a family, require funds for your child's education or marriage or would like to plan for your retirement, all possibilities are ensured through this plan.

Annuity Benefit

Through this option, you will be given the option to get your maturity value on a monthly basis up to the years you have selected. Maturity value will continue to grow through Investments in your Investment Account till the last month of your selected tenure to receive the monthly Annuity benefit.

Strengthen your Child's Future

When a child is born, a dream is born. We, being a parent, would want to shape that dream and bring it to reality in the best possible way. Either it's the question of providing top-quality education or making best arrangement for their marriage, we always want the best for our child. Mehfooz Kal Plan

helps you in achieving all those dreams with ease, as this plan offers one of the most effective ways to keep your child's future secured along with the peace of mind of opting for various exclusive benefits and coverage enhancement options that can be tailored as per your child's future financial needs.

Make Your Own Plan

With Mehfooz Kal Plan, you can design the future you want for yourself! It provides you the flexibility to personalize your plan according to your own goals and family's unique lifestyle. There are many flexible options this plan provides one of which is altering your investment and protection level. In addition to flexibility, you can also opt from various optional add-ons with the help and expert advice of our certified financial advisor that will add more benefit to your policy.

Additional Investment Option (Top-up)

This feature provides additional flexibility to your existing plan. If you have any additional funds available at any stage, you can park them as investment under Mehfooz Kal Plan during the course of the policy term that will further enhance your cash value. Many people use this option to make yearly premium payment by placing additional investment as top-up with their policy.

Cover Multiple (Life Insurance Protection)

A sudden demise of a bread-earner can make many lives difficult. In that case financial security for your family is of utmost priority. With Mehfooz Kal Plan, you can ensure desired financial security for your family by fixing a significant lump sum amount, as much as you anticipate would be enough to fulfill their future financial needs, which could be set as high as 400 times of the premium amount.

Anytime Cash Access

What do you do when you have an urgent requirement of cash? You either borrow it from someone or sell your valuables. To save you from all those hassles and to fulfil your urgent cash requirement, Mehfooz Kal Plan offers a valuable loan facility and easy access to cash (of up-to 50% of your account value).

Inflation Protection

It's an unfortunate fact that the money we have is worth a little less every day. As rising inflation erodes all our savings bit by bit, we need a plan to keep our savings intact. Mehfooz Kal Plan offers this unique feature dedicated to combat inflation with up-to 20% increment in the premium every year.

Free Look Period

Life insurance plan is a long-time commitment towards your goal to provide

desired financial security and prosperity to yourself and your loved ones. However, in case you realize that you are not satisfied with the product offering, you need not to worry, as Askari Life offers a free look period where you can cancel the policy within 14 days of receipt of policy documents and get 100% refund.

Policy Terms and Eligibility

Min Entry Age	Max Entry Age	Min Policy Term
18 Years (Age Nearest Birthday)	60 Years (Age Nearest Birthday)	10 Years
Min Paying Term	Max Paying Term	Max Policy Term
10 Years	Equal to Policy Term	Up to age 70

Basic Premium Allocation

As you continue the policy towards its full term, your Account Value will be credited with a proportion of Basic Premiums that you pay. The proportions allocated to your Account Value will be as follows:

Policy Year	% of Basic Premium Allocated to Account Value	Surrender Charges as % of Account Value
1	70%	100%
2	90%	50%
3	100%	Nil
4 and above	100%	Nil

Continuation Bonus

Mehfooz Kal Plan is a long term saving and investment plan. The longer you continue this plan, the higher the rewards. If you opt and continue the plan for a period of 5 years and beyond, you will earn lucrative loyalty bonuses over and above your contribution made during the policy term.

Policy Year	% of Initial Basic Premium Allocated to Account Value
5	15%
7	25%
10	75%
15	150%
20	200%

Charges

Policy Fee

The monthly policy fee is PKR 200/- only, which will increase by 10% annually.

Investment Management Charges

1.75% of the account value to be deducted annually.

Insurance Cost

With reference to attained age and based on the mortality table.

Premium Expense

5% expense will be deducted from each premium.

Optional Benefits

Apart from standard applicable benefits such as protection and investment, Mehfooz Kal Plan also offers you additional benefits, and the liberty to choose from various optional insurance benefits, based on your goals and financial capabilities.



School Fee Waiver

It's every parent's dream to see their child educated and successful in life, but sometimes life has other plans. Wouldn't it be great to know that your child's education will always be uninterrupted even in case of any misfortune? With this exclusive School Fee Waiver benefit, Mehfooz Kal Plan will ensure your child's education in your absence by covering your child's school fee. It also provides you the flexibility to choose the cover term as per your need (maximum up-to 10 years).



Financial Support against Major Surgery

Imagine having to worry about your finances in case of under-going a surgery. Such a calamity can create a havoc in your family. Thus, financial readiness for such situations is equally important.

Mehfooz Kal Plan offers this exclusive benefit that provides you with an upfront financial support in case you get diagnosed with a chronic disease, so you can manage your hospital bills and expenses without any obstacles.

This benefit is specifically designed to offer living benefits to our customers as depicted in our Brand's mantra of **"Jee Lo Har Ghari"** so you and your loved ones continue living your life & enjoying every moment to the fullest!



Hospital's Stay Expense Covered for up to 60 days in case of Accident

Leading a healthy lifestyle in the modern high-stress routines is challenging. Medical emergencies can arise without any intimation. At such times, treatment costs can put a huge financial burden on families. Sometimes, such huge payments can cause imbalances in your family finances.

To ensure that you are well-protected against unforeseen medical expenses, the Mehfooz Kal Plan offers a unique benefit of hospitalization coverage (applicable only for accidental hospitalization). This benefit provides coverage in case of hospitalization exceeding one day due to an accident.*



Critical Illness Benefit

Everyone looks for medical coverage for the unexpected emergencies and medical help. This is especially important today, when medical care is quite costly and unplanned. A critical illness can put the entire family in huge financial debt and crisis. To combat with all those adverse circumstances, Mehfooz Kal Plan offers critical illness rider that provides coverage against major life threatening diseases (mentioned in the policy details). In case you are diagnosed with any of the mentioned illnesses, a lump sum amount is paid. This lump sum amount is in addition to the main plan benefit



Monthly Income Benefit

Throughout our life, we try to provide comfort, happiness and protect our loved ones emotionally and financially. But there are times when you ask yourself, what if I am not around to take care of my family? Have I secured my loved ones financially? Can I plan for the financial security of my family while meeting my current goals?

Askari Life is proud to introduce one of the most unique benefits that will protect you and your family from financial uncertainties even in case of an unfortunate event that results in death or disability by providing them regular monthly income to manage their monthly expenses with ease.



Waiver of Premium (Disability)

We all work towards the well-being of our family to safeguard their present and ensure their future is financially secure. Be it your child's higher education, planning a family holiday or a secure retirement, we want to provide the best to our loved ones. Even in case of any eventuality, you prepare for the future to ensure your family maintains the same living standards and has a financially secure future. But what if you are unable to earn and pay your premiums because of unexpected events that may result in disability? With this exclusive add-on, we bring to you Premium Waiver Rider, which allows you to get your insurance policy benefits even if you're unable to pay your future premiums.



Waiver of Premium (Death)

If you are seeking maximum protection for your family and want your policy to be active even if you are not there to support them; this benefit is for you! With this add-on, your family will not just receive the guaranteed lump-sum amount (Sum Assured) against the coverage you fixed initially to cover up the sudden financial burden, but will also receive the significant amount as maturity benefit at the end of the policy term.



Accidental Death & Disability Rider

In the journey of life, you always walk an extra mile to provide better future to your family. However, this journey of life is full of uncertainties; you never know how the future will unveil. In today's scenarios, with the increase in the number of instances of accidents, it is imperative to shield your family's future. As a responsible individual you would like to safeguard your family's future against such eventuality. Askari Life's Accidental death and disability rider, offers an additional financial security to your family in the event of an accident that may result in death or disability.



Level Term Benefit (Additional Coverage Option)

We all aim to ensure that our family is protected and financially secure, both now and in the future. And we do so by financially preparing for all circumstances. But what if we foresee expenses rising and want to suitably increase the protection level (Sum Assured)? Furthermore, with changing life stages, insurance needs might change too. For instance, after getting married, becoming a parent or after your parents retire.

This add-on is specifically designed to ensure that the rising expenses of your family are taken care of. If you opt the life insurance policy along with this add-on, your nominated family member will not only get the sum assured or cash value but an additional amount benefit attached due to this new Term Assurance Benefit by paying a nominal fee along with your policy.

Disclaimer

- Mehfooz Kal Plan is a Universal Life Plan which is subject to investment risk and the cash value of the plan will vary directly with the performance of the investment fund
- Bank is acting as a corporate sales agent on behalf of Askari Life, and is not responsible in any manner, whatsoever, to the customer, his/her beneficiary/ies or any third party.
- Askari Life shall be the sole responsible with respect to policyholder services, claim lodgements and claim processing.
- All Mehfooz Kal Plan applications are processed and approved by Askari Life, as per their underwriting guidelines. Bank is not responsible for the processing and approval of these applications in any way, whatsoever.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our sales representative. Please refer to the notes in the illustration for a detailed understanding of the various Terms and Conditions.
- This brochure only provides an introduction to the benefits available under the policy. A detailed description of how the contract works is given in the 'Terms and Conditions', which will be provided after the customer avails the service.

Askari Life Assurance Co. Ltd.

Emerald Tower, Office No. 1104, 11th Floor, Plot G-19, Block 5,
KDA Improvement Scheme No. 5, Clifton, Karachi.
Tel: 021 36269941-44 | Fax: 021 3514 7540
UAN: 021-111-225-275 | Email: info@askarilife.com

www.askarilife.com



askarilife
Jee Lo **Har Ghari**

Askari Better Life MEHFOOZ KAL Plan

Iraada karo kal ki hifazat ka!



021-111-225-275



www.askarilife.com



نگین بیماری کی صورت میں حاصل فائدہ

ہر فرد غیر امکانی صورت حالوں اور طبی مدد کے لئے طبی تحفظ کی تلاش کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر سے آج کل بہت ضروری ہے جبکہ طبی نگہداشت کافی مہنگی اور غیر منصوبہ شدہ ہو گئی ہے۔ اس طرح کے منفی حالات پر قابو پانے کے لئے، محفوظ کل پلان ان بیماری کا اضافی فائدہ پیش کرتا ہے جو زندگی کو لاحق جان لیوا بیماریوں کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے (پالیسی کی تفصیلات میں درج بیماریاں)۔ اگر آپ کو درج بالا بیماریوں میں سے کسی کی بھی تشخیص ہوتی ہے تو آپ کو ایک یکمشت رقم پیش کی جاتی ہے۔ یہ یکمشت رقم اصل پلان کے فائدے کے علاوہ ہے۔



ماہانہ آمدنی کا فائدہ

اپنی پوری زندگی میں، ہم اپنے پیاروں کو چھ باتوں کو چھ باتوں پر سکون، خوشی اور تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اگر میں اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کی پاس نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا میں نے اپنے پیاروں کو مالی طور پر محفوظ کیا ہے؟ کیا میں اپنے موجودہ اہداف کو پورا کرتے ہوئے اپنے خاندان کی مالی حفاظت کے لیے منصوبہ بنا سکتا ہوں؟

عسکری لائف کو ایک ایسے منفرد فائدے کو متعارف کرانے پر فخر ہے جو آپ کو اور آپ کے خاندان کو مالی بے یقینی سے محفوظ رکھے گا حتیٰ کہ کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں بھی جس کے نتیجے میں موت یا معذوری ہو جاتی ہے اور ان کے ماہانہ اخراجات کو آسانی سے سنبھالنے کے لیے انہیں باقاعدہ ماہانہ آمدنی فراہم کی جاتی ہے۔



پریمنیم کی چھوٹ (معذوری کی صورت میں)

ہم سب اپنے اہل خانہ کے حال کی حفاظت کیلئے ان کی فلاح و بہبود کیلئے کام کرتے ہیں اور اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل مالی طور پر محفوظ ہے۔ چاہے وہ آپ کی اولاد کی اعلیٰ تربیت ہو، کسی خاندان کی بنیاد اہلی جاری ہو، تفریح کے لئے رخصت ہو یا ایک محفوظ ریٹائرمنٹ، ہم آپ کے پیاروں کو بہترین طور پر فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی امکانی صورت میں، آپ مستقبل کے لئے تیاری کرتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ آپ کے اہل خانہ وہی معیارات زندگی برقرار رکھیں اور مالی طور پر محفوظ مستقبل کے حامل ہوں۔ لیکن کیا ہوگا غیر یقینی صورت حال، جو غیر متوقع معذوری کا سبب بن جائے، آپ کمائے کے لئے اندھنوں اور اپنے پریمنیم کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں؟ اس خصوصی اضافے کے ساتھ، ہم آپ کے لئے لائے ہیں، پریمنیم کی چھوٹ کا اضافی فائدہ جو آپ کی بیمہ پالیسی کے فوائد کے حصول کی اجازت دیتا ہے اس کے باوجود کہ آپ اپنے مستقبل کے پریمنیمز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں۔



پریمنیم کی چھوٹ (وفات کی صورت میں)

اگر آپ اپنے اہل خانہ کے لئے زیادہ سے زیادہ تحفظ کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی پالیسی اس وقت بھی فعال رہے جب آپ ان کی کفالت کے لئے موجود نہ ہوں۔ یہ فائدہ آپ کیلئے ہے۔ اس اضافی فائدے سے، آپ کے اہل خانہ، اس تحفظ کے تحت، جو آپ نے ابتدائی طور پر اچانک مالی بوجھ کے تحفظ کیلئے مقرر کیا ہو، نہ صرف ضمانت شدہ یکمشت رقم حاصل کریں گے (زر بیمہ) بلکہ ان کو پالیسی کی مدت کے اختتام پر پالیسی کا اختتامی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔



حادثاتی وفات اور معذوری کی اضافی فائدہ

زندگی کے سفر میں، آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ کو بہتر مستقبل فراہم کرنے کیلئے، ایک اضافی میل چلتے ہیں۔ البتہ، زندگی کا یہ سفر غیر یقینی صورت حالوں سے بھرپور ہے، آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے۔ آج کے منظر ناموں میں، حادثات و واقعات کے تعداد میں اضافے کے ساتھ، آپ کو اپنے اہل خانہ کے مستقبل کو بحال فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایک ذمہ دار فرد کی



لیول ۱۲۸ اضافی فائدہ (اضافی فائدے کا اختیار)

حیثیت سے، آپ ایسے واقعات کیلئے اپنے اہل خانہ کے مستقبل کی حفاظت کرنا چاہیں گے۔ عسکری لائف حادثاتی وفات اور معذوری اضافی فائدہ، کسی بھی حادثے کی صورت میں جو موت یا معذوری کا سبب بن جائے، آپ کے اہل خانہ کو اضافی مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔

ہم سب لوگوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہمارے اہل خانہ کو تحفظ حاصل ہو اور وہ مالی طور پر محفوظ ہو، آج بھی اور مستقبل میں بھی۔ اور ہم تمام حالات کے لئے مالی طور پر تیاری کر کے اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اخراجات بڑھ رہے ہیں اور مناسب طور پر تحفظ کے درجے کو بڑھانا چاہیں (زر بیمہ)؟ مزید برآں، زندگی کے بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ، جیسے کی ضروریات بھی بدل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، شادی کے بعد، والدین کا درجہ حاصل کرنا یا آپ کے والدین کے ریٹائرمنٹ کے بعد۔

یہ اضافی فائدہ خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ آپ کے اہل خانہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا خیال رکھا جاسکے۔ اگر آپ اس اضافی فائدے کے ساتھ بیمہ جیات کی پالیسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کے خاندان کے نامزد کردہ فرد کو نہ صرف زر بیمہ یا نقد مالیت حاصل ہوگی بلکہ اسے نمائندہ بیمہ فائدے سے اپنی پالیسی کے ساتھ ایک معمولی فیس ادا کر کے، ایک اضافی رقم کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔



بڑی نوعیت کی سرجری کی صورت میں حاصل فائدہ

سرجری کے عمل سے گزرنے کی صورت میں اپنی مالیات کے بارے میں پریشان ہونے کے بارے میں سوچئے۔ ایسی کوئی بھی آفت اہل خانہ کیلئے بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس منفرد فائدے کے ذریعے، اگر آپ کسی سرجری سے پالیسی کی مدد کے دوران گزرتے ہیں (تفصیلات پالیسی میں درج ہیں) تو عسکری لائف پانچ لاکھ روپے کے سرجری کے اخراجات برداشت کرے گی۔ چنانچہ آپ کے اہل خانہ پر کوئی اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ فائدہ علاج کے لئے درکار مناسب رقم سے آپ کے لئے ایک تحفظ کا کردار ادا کرتا ہے۔

دستبرداری

- محفوظ کل پلان ایک یونیورسل لائف پلان ہے جو سرمایہ کاری کے نقصان کے اندیشے سے مشروط ہے اور پلان کی نقد مالیت براہ راست سرمایہ فیڈ کی کارکردگی کے مطابق بدلے گی۔
- چیک عسکری لائف کی جانب سے ایک کارپوریٹ سیلز ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور وہ کسی بھی طور صارف، اس کے فائدہ اٹھانے والا (والے) یا کسی تیسرے فریق کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔
- عسکری لائف بیمہ دار کی خدمات، کلیم کے قیام اور کلیم کی کارروائی کے سلسلے میں واحد ذمہ دار ہوگا۔
- محفوظ کل پلان کی تمام درخواستیں، بیمہ کاری کی گرانڈ لائز کے مطابق عمل میں آتی ہیں اور منظور ہوتی ہے۔ چیک کسی بھی طور ان درخواستوں پر عمل درآمد اور منظوری کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔
- فوائد کی ایک شخصی توضیح ہمارا سٹیلز کا نمائندہ آپ کو پیش کرے گا۔ براہ مہربانی مختلف شرائط وضوابط کو تفصیلی طور پر سمجھنے کے لئے اس میں شذرات ضرور دیکھئے۔
- یہ کتابچہ اس پالیسی کے تحت دستیاب فوائد کا ایک تعارف پیش کرتا ہے۔ معاہدہ کس طور پر کام کرتا ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ”شرائط وضوابط“ میں دی گئی ہے جو صارف کے خدمات حاصل کرنے کے بعد فراہم کی جائیں گی۔



askarilife
Jee Lo Har Ghari

عسکری بیٹر لائف محفوظ کل پلان

ارادہ کرو کل کی حفاظت کا!



021-111-225-275



www.askarilife.com

www.askarilife.com

Askari Life Assurance Co. Ltd.

Emerald Tower, Office No. 1104, 11th Floor, Plot G-19, Block 5,

KDA Improvement Scheme No. 5, Clifton, Karachi.

Tel: 021 36269941-44 | Fax: 021 3514 7540

UAN: 021-111-225-275 | Email: info@askarilife.com

عسکری بیئر لائف – محفوظ کل پلان

ہمارے یونیورسل لائف پلان کا تعارف

ہم نے اپنا یونیورسل لائف پلان آپ کو اپنے اور اپنے پیاروں کے لئے ایک محفوظ مالی مستقبل قائم کرنے میں مدد کرنے کے لئے تشکیل دیا ہے۔ صرف چوبیس ہزار روپے سالانہ سے آپ ایک ایسے راستے پر سفر کا آغاز کر سکتے ہیں جو دونوں طرح یعنی کلچر اور اور قابلِ بھروسہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہو سکتی ہے اور ہمارا پلان خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جانے کی صورت میں آپ کے خاندان کو ہنگامی پختیں فراہم کرنے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ ضروری اخراجات جیسے کہ گھریلو ضروریات، واجب الادا قرضہ جات اور بچوں کے تعلیمی اخراجات کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔

تحفظ اور بچت ایک ساتھ

ہمارا پلان ایک مضبوط تیرہ تحفظ پیش کرتا ہے جو آپ کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کے پیاروں کو اپنا معیار زندگی برقرار رکھنے میں مدد کرے گا۔ لیکن صرف یہی نہیں، اس میں بچت کا ایک جز بھی شامل ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ ایک مالی تحفظ بھی قائم کرتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے طویل المیعاد اہداف پر کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول بھیجنا ہو، اطمینان سے ریٹائر ہونے کے لئے یاد دہرے لفظوں میں ایک مالی بیک اپ منصوبہ بنانا۔

اپنے مستقبل کے لئے ایک بہترین سرمایہ کاری

ہمارے یونیورسل لائف پلان میں سرمایہ کاری کر کے، آپ فوری طور پر دو اہم چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں: اپنے اہل خانہ کے مالی مستقبل کا تحفظ اور ایک سیولگ اکاؤنٹ بنانا جو آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے۔ چوبیس ہزار روپے کے سالانہ پریئمزم کے ساتھ آپ اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے ایک محفوظ مستقبل بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارا پلان کلچر اور قابلِ بھروسہ اور ذہنی سکون کا ذریعہ بننے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے، جس سے ہر اس شخص کے لئے جو اپنی مالی بہتری کا کنٹرول حاصل کرنے کے کا خواہشمند ہو، ایک عمدہ انتخاب ہے۔

کلیدی خصوصیات

ایک ہی بیج میں سب کچھ!

جیسے جیسے ہم زندگی کے ہر دور سے گزرتے ہیں، ہماری مالی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ، زندگی اور بچتوں سے ہماری ظاہری نسبت بدل جاتی ہے۔ آپ کی بدلتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عسکری لائف نے محفوظ کل پلان تشکیل دیا ہے، جو نہ صرف ان دیکھے حالات سے طویل المدّت تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کی زندگی میں خوش حالی بھی لاتا ہے۔ خواہ آپ اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہوں، حال ہی میں ایک خاندان کی بنیاد ڈالی ہے، اپنے بچے کی تعلیم یا شادی کے لئے فنڈ ز کی ضرورت ہے یا آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے لئے کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کل پلان کے تحت تمام تر امکانات کا یقین دلایا جاتا ہے۔

سالیانہ فائدہ

اس اعتبار کے ذریعے، آپ کو پالیسی کی اختتامی مالیت ان سالوں تک جن کا آپ نے انتخاب کیا ہو، ماہانہ بنیاد پر حاصل کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اختتامی مالیت سرمایہ کاری کے ذریعے آپ کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں آپ کی منتخب گئی مدت کے آخری مہینے تک ماہانہ سالیانہ فائدہ وصول کرنے کے لئے بڑھتی رہے گی۔

اپنے بچے کا مستقبل مضبوط کیجئے

جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خوب بھی جنم لیتا ہے۔ ہم والدین کی حیثیت سے اس خوب کو ایک شکل دینا چاہیں گے اور اسکو بہترین ممکنہ طریقے سے حقیقت کا روپ دینا چاہیں گے۔ چاہے وہ اعلیٰ معیار کی تعلیم کی فراہمی کا سوال ہو یا ان کے شادی کے لئے بہترین انتظامات کرنا، ہم اپنی اولاد کے لئے ہمیشہ بہترین کی خواہش رکھتے ہیں۔ محفوظ کل پلان آپ کو ان تمام خواہوں کے بآسانی

حصول میں آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ یہ پلان مختلف منفرد فائدہ اور اضافی تحفظ کے اختیارات کے ذریعے جو آپ کی اولاد کی مستقبل کی مالی ضروریات کے مطابق وضع کئے جاسکتے ہیں مکمل ذہنی اطمینان کے ساتھ، ان کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لئے بہترین موقع پر یقینہ جات میں سے ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔

اپنا پلان خود بنائیں

محفوظ کل پلان کے ذریعے، آپ اپنے لئے خود مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے اپنے اہداف اور اہل خانہ کے منفرد معیار زندگی کے مطابق اپنے پلان کو شکل دینے کی لچک فراہم کرتا ہے۔ اس پلان میں کئی کلچر اختیارات میئر ہیں، جیسے کہ اپنی سرمایہ کاری اور تحفظ میں ردّ و بدل۔ اس چلک کے علاوہ، آپ ہمارے تصدیق شدہ مالی مشیر کی مدد سے دیگر کئی اختیاری اضافہ جات کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی پالیسی کو مزید فائدہ پیش کر سکتے ہیں۔

سرمایہ کاری کے لئے اضافی اختیار

بغیر آپ کو موجودہ پلان میں اضافی لچک فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زندگی میں کسی بھی موقع پر اضافی فنڈز دستیاب ہوں تو آپ ان کو پالیسی کی مدت کے دوران محفوظ کل پلان کے تحت سرمایہ کاری کے طور پر پلان میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پلان کی نقد مالیت میں مزید اضافہ کریں گے۔ بہت سے افراد پالیسی میں ان فنڈز کے ذریعے اضافی سرمایہ کاری کر کے اپنے سالانہ پریئمزم کی ادائیگی کا اختیار استعمال کرتے ہیں۔

کوئٹل (بیرہ حیات کا تحفظ)

گھر کے نقل کا چا کب دینا سے پردہ کرنا کئی زندگیوں کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس صورت میں، آپ کے اہل خانہ کے لئے مالی تحفظ از حد ترجیح کا حامل ہوتا ہے۔ محفوظ کل پلان کے ذریعے، آپ اپنے اہل خانہ کے لئے مطلوبہ مالی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک نیکست نمایاں رقم مقرر کر سکتے ہیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اہل خانہ کی مستقبل کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے کافی ہوں گی جو پریئمزم کی رقم کا دوسو گنا تک طے کیا جاسکتا ہے۔

کسی بھی وقت نقد رقم تک رسائی

آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو نقد رقم کی فوری ضرورت پڑ جاتی ہے؟ یا تو آپ کسی سے ادھار لینے ہیں یا اپنی قیمتی اشیاء کو فروخت کرتے ہیں۔ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے بچانے کے لئے اور آپ کی نقد رقم کی فوری ضرورت کا اطمینان دلانے کے لئے محفوظ کل پلان ایک قابل قدر ضرّہ بولت اور نقد رقم تک آسان رسائی (آپ کے اکاؤنٹ کی مالیت کے پچاس فیصد تک) پیش کرتا ہے۔

افراط زر سے تحفظ

یہ ایک بقمّت حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو روپیہ ہوتا ہے ہرگز رتے دن کے ساتھ اس کی قدر کچھ کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ بڑھتا ہوا افراط زر ہماری بچتوں کو ہستہ ہستہ چاٹ جاتا ہے، ہمیں ایک ایسے پلان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری بچتوں کو مربوط رکھے۔ محفوظ کل پلان افراط زر کا مقابلہ کرنے سے منسوب ایک منفرد فیچر پیش کرتا ہے جس میں ہر سال پریئمزم میں صرف پانچ فیصد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

غور و فکر کا دورانیہ

محفوظ کل پلان آپ کو اور آپ کے پیاروں کو مطلوبہ مالی تحفظ اور خوشحالی فراہم کرنے کیلئے آپ کے ہدف کے لئے ایک عہد ہے۔ البتہ، اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اس پروڈکٹ کی پیشکش سے مطمئن نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عسکری لائف غور و فکر کا ایک دہائیہ پیش کرتا ہے جس میں آپ بے درداری رکنیت کی دستاویزات وصولی کے 14 دن کے اندر منسوخ کر سکتے ہیں اور 1۰0 فیصد رقم کی واپسی حاصل کر سکتے ہیں۔

پالیسی کی شرائط اور اہلیت

اندراج پر کم از کم عمر	اندراج پر زیادہ سے زیادہ عمر	پالیسی کی کم از کم مدت
(قریبی سالگرہ پر) 18 سال	(قریبی سالگرہ پر) 60 سال	10 سال
ادائیگی کی کم از کم مدت	ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ مدت	پالیسی کی زیادہ سے زیادہ مدت
10 سال	پالیسی کی مدت کے مساوی	70 سال کی عمر تک

بنیادی پریئمزم کی تخصیص

جیسے جیسے آپ پالیسی کو اسکی مکمل مدت تک جاری رکھتے ہیں، بنیادی پریئمزم جو آپ ادا کرتے ہیں اس کے ایک تناسب کے اعتبار سے رقم آپ کے اکاؤنٹ کی قدر تخفیف کی جاتی ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ کی قدر کو تخفیف کئے گئے تناسب درج ذیل ہونگے:

پالیسی سال	بنیادی پریئمزم کا فیصد	سرینڈر اخراجات
1	70 فیصد	مالیت کے فیصد کے اعتبار سے
2	90 فیصد	100 فیصد
3	100 فیصد	50 فیصد
4 سال اور اس سے زائد	100 فیصد	کوئی نہیں

جاری ہونس

محفوظ کل پلان ایک طویل المدّت بچت اور سرمایہ کاری پلان ہے۔ جتنا زیادہ مدت تک آپ اس پلان کو جاری رکھتے ہیں، اتنے ہی زیادہ فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ پانچ سال اور اس سے زیادہ کیلئے پلان کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے جاری رکھتے ہیں تو آپ کو پالیسی کی مدت کے دوران کئے گئے آپ کے حقوں کے علاوہ منافع بخش اہلیتی بونس بھی حاصل ہونگے۔

پالیسی سال	اکاؤنٹ مالیت کو تخفیف کئے جانے والی بنیادی ابتدائی پریئمزم کا فیصد
5	15 فیصد
7	25 فیصد
10	75 فیصد
15	150 فیصد
20	200 فیصد

اخراجات

پالیسی فیس

پالیسی کا ماہانہ فیس صرف 200 روپے ہے، جس میں ہر سال 10 فیصد کے اعتبار سے اضافہ ہوگا۔

سرمایہ کاری کے انتظامی اخراجات

اکاؤنٹ مالیت کے 1.75 فیصد سالانہ منہاء کئے جائیں گے۔

بیمہ کی لاگت

تمکین شدہ عمر کے حوالے سے اور شرح اموات کی ٹیبل کی بنیاد پر۔

پریئمزم کا خرچ

ہر پریئمزم پر پانچ فیصد خرچ منہاء کیا جائے گا۔

اختیاری فوائد

اسٹینڈرڈ اطلاق کردہ فوائد سے ہٹ کر، جیسے کہ تحفظ اور سرمایہ کاری، محفوظ کل پلان آپ کو معمولی ادائیگی پر اضافی فوائد بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کو، آپ کے مقاصد اور مالی صلاحیتوں کی بنیاد پر، کئی مختلف بیسے کے فوائد کا انتخاب کرنے کی آزادی پیش کرتا ہے۔

اسکول فیس کی چھوٹ

ہر والدین کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ اور زندگی میں کامیاب دیکھیں لیکن بعض اوقات زندگی میں دیگر منصوبے سامنے آتے ہیں۔ کیا یہ جاننا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کہ کسی بھی انہونی کی صورت میں بھی آپ کی اولاد کی تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ بغیر کسی رخنے کے جاری رہے گا؟ اس منفرد اسکول فیس کی چھوٹ کے فائدے سے، محفوظ کل پلان آپ کی غیر موجودگی میں اسکول فیس کی ادائیگی کے ذریعے آپ کی اولاد کی تعلیم کے سلسلے کو یقینی بنائے گا (دس سال کی مدت تک)۔

بڑی نوعیت کی سرجری کی صورت میں حاصل فائدہ

سرجری کے عمل سے گزرنے کی صورت میں اپنی مالیت کے بارے میں پریشان ہونے کے بارے میں سوچئے۔ ایسی کوئی بھی آفت اہل خانہ کیلئے بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے حالات کے لئے مالی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہے۔

محفوظ کل پلان یہ منفرد فائدہ پیش کرتا ہے جو آپ کو کسی دائمی بیماری کی تخفیف کی صورت میں پیشگی مالی مدد فراہم کرتا ہے، تاکہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کی اپنے ہسپتال کے بلوں اور اخراجات کا انتظام کر سکیں۔

یہ فائدہ خاص طور پر ہمارے صارفین کو زندگی کے فوائد پیش کرنے کے لیے ذی رائن کیا گیا ہے جیسا کہ ہمارے برانڈ کے منتر "جی لو برگر" میں دکھایا گیا ہے تاکہ آپ اور آپ کے چاہنے والے اپنی زندگی گزارتے رہیں اور ہر لمحے سے پھر پر اطف اندوز ہوتے رہیں!

ہسپتال میں داخلے کی صورت میں بیرہ تحفظ

آج کے جدید بہت زیادہ ذہنی تناؤ کے معمولات میں ایک صحت مند معیار زندگی گزارنا ایک چیلنج ہے۔ طبی ہنگامی صورت حال بغیر کسی اطلاع کے پیش آسکتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر، علاج معالجے کی لاگت خاندانوں پر ایک بڑا مالی بوجھ پیدا کر سکتی ہے۔ اتنی بڑی ادائیگیاں آپ کے اہل خانہ کی مالیتوں میں عدم توازن کا سبب بن سکتی ہیں۔

اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ آپ کو ان دیکھے طبی اخراجات کے لئے اچھی طرح تحفظ حاصل ہے، محفوظ کل پلان آپ کو ایک منفرد فائدہ پیش کرتا ہے جو ہسپتال میں داخلے کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جس میں کسی حادثے کے باعث ہسپتال میں ایک دن سے زیادہ قیام کی صورت میں کو رتی ملتی ہے۔